

# Maulana Azad National Urdu University

**Master of Science (Mathematics) : II Semester Examination, September 2021**

**Paper : MSMM213CCT : Real Analysis-II (Measure & Integration)**

**Time : 3 hrs**

**Marks : 70**

**ہدایات:**

یہ پرچہ سوالات و حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول اور حصہ دوم۔ ہر جواب کے لیے لفظوں کی تعداد اشارہ ہے۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔

1. حصہ اول میں 10 سوالات ہیں، اس میں سے طالب علم کو کوئی 08 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً سو (100) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 05 نمبرات مختص ہیں۔
2. حصہ دوم میں 05 سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی 03 سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال کا جواب تقریباً ڈھائی سو (250) لفظوں پر مشتمل ہے۔ سوال کے لیے 10 نمبرات مختص ہیں۔

## حصہ اول

تفاعلات کے (Equi - Continuous) خاندان کی تعریف کیجئے اور ایک ایسے خاندان کی مثال دو جو (Equi - Continuous) نہیں ہے۔ .1

Radius of Convergence کے  $\sum \frac{(n!)^2}{(2n)!}$  کی تعریف کیجئے Radius of Convergence Power Series .2

معلوم کیجیے۔

Exponential Function کا Strictly Increasing ہوتا ہے ثابت کیجیے۔ .3

A Basis کی تعریف کیجئے اور ایک مثال دیجیے۔ .4

A linear transformation کی تعریف کیجئے اگر  $T: U \rightarrow V$  ایک linear transformation کے Null Space اور Range کی تعریف کیجئے اگر  $f: U \rightarrow V$  ایک linear transformation ہے۔ .5

Sub Space کا Range (T) ہوگا۔

A Self map کی تعریف کیجئے جس کی تعریف کیجئے اگر  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  سے کی گئی ہے کہ Fixed Point معلوم کیجیے۔ .6

Fixed point معلوم کیجیے۔

A Outer Measure کی تعریف کیجئے اگر  $m^*(Q) = 0$  ہے۔ Rational Numbers کا سٹ ہوتا ہے بتاؤ کہ 0 ہے۔ .7

Finite Union کا Measurable Sets میں بھی Measurable ہوگا۔ .8

A Measurable Function کی تعریف کیجئے اگر  $f$  ایک Measurable Function ہو تو بتاؤ کہ  $|f|$  بھی Measurable Function ہوگا۔ .9

Fatou's Lemma کو بیان اور ثابت کیجئے۔ .10

## حصہ دوم

Stone weierstrass .11 کے نظریہ کو بیان اور ثابت کیجیے۔

12. اگر  $A, B \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$  اور  $c$  ایک مستقل ہوتا ہے تو ثابت کرو کہ

$$\|cA\| = |c|\|A\| \text{ اور } \|A + B\| \leq \|A\| + \|B\| \quad (\text{i})$$

$$\|BA\| \leq \|B\|\|A\| \quad (\text{ii})$$

13. ثابت کرو کہ کسی Outer measure کا Interval اس کی لمبائی ہوگی۔

14. اگر سیٹ  $E$  کا Measure متناہی ہے اور  $f, g$  Bounded Measurable ہوں تو  $a, b$  کے لیے ثابت کرو۔

$$\int_E (af + bg) = a \int_E f + b \int_E g \quad (\text{i})$$

$$\int_E f \leq \int_E g \iff f \leq g \text{ a.e. } E \quad (\text{ii})$$

15. Bounded Convergence کے نظریہ کو بیان اور ثابت کیجیے۔

